

## 150813 - مہر کی ادائیگی بیوی کے ذمہ والی شادی کا حکم

### سوال

میرے ملک میں لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے والے شخص کو مہر ادا کرتے ہیں، لیکن میرے لیے مہر ادا کیے بغیر اپنی بہن کی شادی کرنا ممکن نہیں، میں نے پچھلے دو برس سے کوشش کی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مہر لیے بغیر میری بہن سے شادی کرے لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، کیا مہر مطلب کرنے والے شخص کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کرنا حرام نہیں؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله:

مہر کی ادائیگی خاوند پر بیوی کا حق ہے، یہ مہر خاوند اپنی بیوی کو ادا کریگا نہ کہ بیوی اپنے خاوند کو، کتاب و سنت اور اجماع امت میں اس کے بہت دلائل پائے جاتے ہیں جن میں سے چند ایک ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور تم عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی ادا کرو، اگر وہ عورتیں اپنی مرضی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں بہہ کر دیں تو پھر تم اسے ہنسی خوشی کھاؤ النساء (4).

امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسے بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو یہ عطیہ واجب اور فرض اور لازم ہے " انتہی

مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر ( 45527 ) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں.

خاوند کے لیے یہ شرط لگانا جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مہر بیوی یا اس کے ولی سے حاصل کریگا، بلکہ ایسی شرط لگانا باطل طریقہ سے مال کھانا اور ہڑپ کرنا کہلائیگا.

اور اگر خاوند ایسی کوئی شرط لگائے اور نکاح ہو جائے تو جمہور اہل علم کے ہاں یہ نکاح صحیح ہوگا، اور خاوند

کچھ نہ کچھ مہر ضرور ادا کریگا، چاہے وہ فوری طور پر ادا کرے یا بعد میں، اور اسے مہر نہ دینے کی شرط لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اہل علم کے ہاں اس صورت میں نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور اگر نکاح کے وقت خاوند خاموش رہے اور مہر مقرر نہ کرے تو پھر عورت کو مہر مثل ادا کیا جائیگا۔

مزید تفصیل کے لیے آپ المحلی ابن حزم ( 50 ) اور المغنی ابن قدامة ( 72 / 7 ) کا مطالعہ کریں۔

ذیل میں ہم ایسی شرط لگانے کی حرمت اور شرعی مخالفت ہونے کے متعلق علماء کرام کی کلام نقل کرتے ہیں:

ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں یحییٰ بن بشیر سے روایت کیا ہے کہ:

1 - علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی عورت کے متعلق فتویٰ دیا جس نے ایسے شخص سے شادی کی جس نے شرط رکھی تھی کہ بیوی مہر ادا کریگی اور علیحدگی اور طلاق کا مسئلہ بھی بیوی کے ہاتھ میں ہوگا، اور جماع و مباشرت بھی بیوی کے ہاتھ ہوگی۔

تو علی رضی اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہنے لگے: تو نے سنت کی مخالفت کی اور معاملہ کو اس کے سپرد کیا جو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، آپ کو مہر ادا کرنا ہوگی، اور جماع و علیحدگی اور طلاق تیرے ہاتھ میں ہے کیونکہ سنت یہی ہے۔

اور ابن ابی شیبہ نے حسن سے بھی روایت کیا ہے کہ:

" عورتوں کا حق نہیں کہ وہ مردوں کو مہر ادا کرتی پھریں "

دیکھیں: مصنف ابن ابی شیبہ ( 3 / 427 )۔

2 - رابطہ عالم اسلامی کے ادارہ اسلامی فقہ اکیڈمی ( 15 / 10 / 1425 الموافق 28 / 11 / 2004 ) لڑکی والوں کا لڑکے کو رقم اور جہیز ادا کرنے کے فیصلہ میں درج ہے:

و حده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده:

و بعد: اسلافی فقہ اکیڈمی نے عبد القادر ہندی کے لیٹر کا ترجمہ دیکھا جس میں ان کا اپنے معاشرہ میں لڑکی والوں کا لڑکے کو شادی کے بدلے رقم ادا کرنے والی رسم جہیز کے خلاف آواز اٹھانے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انڈین مسلمان نکاح فارم میں مہر لکھوا تو دیتے ہیں لیکن بیوی کو ادا کچھ نہیں کیا جاتا...

اس بارہ میں اکیڈمی کے فیصلہ میں درج ہے:

دوم:

اکیڈمی متنبہ کرتی ہے کہ اگرچہ یہ شادی اس اعتبار سے شرعی شادی کے مخالف ہے، لیکن یہ شادی صحیح ہے اور جمہور علماء کرام کے ہاں اسے معتبر شمار کیا جائیگا، صرف چند ایک علماء کرام نے اس شادی کو مہر نہ دینے کی شرط ہونے کی حالت میں صحیح تسلیم نہیں کیا۔

لیکن ایسی شادی سے پیدا ہونے والی اولاد شرعی ہوگی اور وہ اپنے ماں باپ کی طرف منسوب کی جائیگی، علماء کرام کے اجماع کے مطابق یہ نسبت شرعی اور صحیح ہے، حتیٰ کہ ان علماء کے ہاں بھی جو اس نکاح کو صحیح تسلیم نہیں بھی کرتے وہ بھی اسے شرعی نسبت تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ مذکورہ شادی سے پیدا شدہ اولاد کو ان کے ماں باپ کی طرف منسوب کیا جائیگا۔

سوم:

اکیڈمی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ: یہ بہت بری عادت اور قبیح بدعت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے اجماع کے مخالف ہے، اور اسی طرح سب زمانوں میں مسلمانوں کے عمل کے بھی خلاف ہے۔

کتاب اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور تم عورتوں کو ان کے مہر راضی و خوشی ادا کرو النساء ( 4 ) .

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے:

تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم انہیں مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لو الممتحنة ( 10 ) .

اور ایک مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر ادا کر دو النساء ( 24 ) .

اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں، اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور تقریر سے مہر کی مشروعیت ثابت ہے۔

مسند احمد اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اگر کوئی شخص کسی عورت کو دونوں ہاتھ بھر کر غلہ مہر میں دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی۔

یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل تو صحیح مسلم وغیرہ دوسری سنن کی کتابوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ:

" رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر ساڑھے بارہ اوقیہ تھا "

یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، اور آپ کی تقریر کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی درج ذیل حدیث میں پائی جاتی ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے لباس پر زرد رنگ کے نشانات دیکھے تو فرمایا: یہ کیا ؟

تو انہوں نے جواب دیا: میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور اسے کھجور کی ایک گٹھلی جتنا سونا مہر دیا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے "

یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے کہ آپ نے عبد الرحمن کو مہر دینے پر روکا نہیں، جو کہ مسلمانوں کا اجماع اور الحمد للہ مسلمانوں کا ہر دور میں ہر جگہ اس پر عمل بھی رہا ہے۔

اس بنا پر اکیڈمی کا یہ فیصلہ ہے کہ: خاوند اپنی بیوی کو مہر ضرور ادا کریگا چاہے وہ فوری طور پر ادا کرے یا پھر بعد میں، یا کچھ فوری طور پر ادا کر دے اور کچھ بعد میں، لیکن بعد میں حقیقتاً ادا کرنا ہوگا یہ نہیں کہ لکھا دے اور ادائیگی کا ارادہ ہی نہ ہو، بلکہ جب آسانی ہو باقی ماندہ مہر ادا کرے۔

مہر کے بغیر خاوند کا اپنی بیوی سے شادی کرنا حرام ہے اکیڈمی یہ نصیحت کرتی ہے کہ مہر کم رکھنا اور اس میں آسانی پیدا کرنا، اور نکاح میں آسانی کرنا سنت ہے، اس لیے نکاح اور شادی کے اخراجات میں کمی کرتے ہوئے زیادہ اخراجات سے احتراز کیا جائے اور فضول خرچی نہ کی جائے کیونکہ فضول خرچی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔

چہارم:

اکیڈمی انڈیا وغیرہ کے علماء کرام اور ذمہ داران حضرات سے اپیل کرتی ہے وہ اس غلط اور بری عادت کے خلاف جنگ کریں، اور اسے اپنے ملک سے ختم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں کیونکہ یہ عادت آسمانی شریعت اور عقل سلیم اور نظر مستقیم کی مخالف ہے۔

پنجم:

یہ بری عادت شریعت مطہرہ کے مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی واضح نقصانہ ہے، اس عادت

کے ہوتے ہوئے تو نوجوان صرف اسی لڑکی سے شادی کریں گے جس کے گھر والے یا پھر لڑکی انہیں مہر ادا کریگی اور صرف مالدار لڑکیوں سے شادی کریں جس کے نتیجہ میں غریب اور مسکین لڑکیاں بغیر شادی کے رہ جائیں گی، جس کے نقصانات کسی پر مخفی نہیں ہیں۔

اس طرح تو شادی مالی لالچ اور غرض بن کر رہ جائیگی اور اچھی اور دین والی لڑکی اور لڑکا اختیار کرنے کی بنیاد پر قائم نہیں رہے گی، جیسا کہ آج یورپی ممالک میں دیکھا جا رہا ہے غریب لڑکی اپنی جوانی مال کمانے میں ضائع کر دیتی ہے تا کہ وہ مال جمع کر کے مردوں کو اپنی طرف راغب کر کے شادی کر سکے۔

لیکن دین اسلام نے تو عورت کو عزت و تکریم سے نوازا اور اسے گھر میں ٹک کر رہنے کا حکم دیا ہے کہ اس کے سارے اخراجات اور نان و نفقہ خاوند کے ذمہ واجب کیا ہے، جو شخص عورت سے شادی کرنے کی رغبت رکھتا ہو وہ عورت کو مہر بھی ادا کریگا اور پھر اس کے سارے اخراجات اور رہائش وغیرہ بھی مہیا کرنے کا پابند ہے۔

اس طرح غریب و مسکین لڑکیوں کی شادی کا دروازہ بھی کھل گیا کیونکہ وہ تھوڑا سا مہر بھی قبول کر لیتی ہیں اس طرح فقیر اور غریب مردوں کے لیے بھی شادی میں آسانی ہو جائیگی اور عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کریں گے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق نصیب کرنے والا ہے " انتہی

3۔ انڈین اسلامی فقہ اکیڈمی کے فیصلہ نمبر ( 56 ) ( 13 / 5 ) میں اسی بری عادت کے متعلق درج ذیل بیان آیا ہے:

" علماء ہند اور عرب ممالک کے علماء جو ندوہ کے اجلاس میں شریک ہوئے وہ محسوس کرتے ہیں کہ شادی کے وقت عقد نکاح میں جو مال بیوی یا اس کے اولیاء سے طلب کرتا ہے اور یہاں یہ رواج بن چکا ہے اور خطرناک صورت حال اختیار کر چکا ہے کہ اس وقت نکاح بہت مشکل بن چکا ہے حالانکہ شریعت اسلامیہ نے تو نکاح میں آسانی پیدا کی تھی اور دین اسلام میں سب سے عظیم بابرکت بنایا تھا جسے آج بہت مشکل بنا دیا گیا ہے جسے حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔

اس طرح بہت ساری بالغ لڑکیاں جھپڑ نہ ہونے کے سبب شادی کے بغیر جوانی گزار دیتی ہیں، جس کے معاشرے میں بہت برے نتائج پیدا ہو رہے ہیں اور اخلاق بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جسے شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، ان نتائج کو دیکھتے ہوئے ندوہ درج ذیل فیصلہ کرتا ہے:

اول:

نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، اور دین اسلام نے اسے آسان بنایا اور نکاح کرنے کی رغبت دلائی ہے، لیکن بہت سارے

لوگوں نے شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتے ہوئے جہیز اور اسراف و فضول خرچی کے ساتھ نکاح کو مشکل اور زیادہ اخراجات والا بنا کر رکھ دیا ہے جو کہ صریحا احکام اسلامی کی مخالفت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔

دوم:

اس وقت رائج جہیز قطعی طور پر حرام ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔

سوم:

دین اسلام نے نہ تو بیوی اور نہ ہی اس کے اولیاء پر کوئی خرچ اور بوجھ ڈالا ہے کہ شادی کے وقت وہ خاوند کو کچھ ادا کرے، بلکہ بیوی کا مہر اور اس کا نان و نفقہ بھی خاوند کے ذمہ واجب کیا ہے، اس لیے کسی بھی قسم کا بیوی اور اس کے اولیاء پر مالی بوجھ ڈالنا جائز نہیں۔

چہارم:

مہر بیوی کا مالی حق ہے، اور خاوند کو جتنی جلد ہو سکے مہر کی ادائیگی کرنی چاہیے۔

پنجم:

بیوی کو شادی کے وقت اس کے والدین اور رشتہ دار جو سامان اور اشیاء دیتے ہیں یا خاوند کے رشتہ داروں کی جانب سے اسے جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں وہ خالص بیوی کا مالی حق اور ملکیت ہیں، خاوند یا اس کے گھر والوں کے لیے اسے اپنی ملکیت میں لینا یا واپس لے لینے یا اسے استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ بیوی کی مکمل رضامندی کے بغیر اسے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے " انتہی

آپ اس کی تفصیل درج ذیل لنک میں دیکھ سکتے ہیں:

<http://ifa-india.org/arabic/qararat.html>

حاصل یہ ہوا کہ: دین اسلام میں حرام ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کرے... لیکن اگر آپ کے لیے اس کے بغیر اپنی بہن کی شادی کرنا ممکن نہ ہو تو آپ اس پر مجبور ہیں، ان شاء اللہ اس صورت میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اچھی اور بہتر طرح دین کی طرف واپس لائے۔

واللہ اعلم